



نُعمائے مجاہدین

مُرئیبہ: اقتداء عسکری مغل

## دعائے مجیر

یہ بڑی شان والی دعا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آں جناب ایک مرتبہ مقام ابراہیمؑ میں نماز میں مشغول تھے کہ جناب جبرائیلؑ امین نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اس دعا کو ماہ رمضان کی تیرہویں، جو دھویں اور پندرہویں تاریخ کو پڑھے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اگرچہ تعداد میں بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں اور ذراتِ ریگِ صحرا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ جو شخص اس دعا کو پڑھتا رہے، ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص تین روزے رکھے اور اس دعا کو سات مرتبہ پڑھے اور سیدھا لیٹ کر سوئے تو خواب میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو گا۔ اس دعا کی برکت سے مریض شفاء پاتا ہے۔ قرضدار کا قرض ادا ہوتا ہے۔ تنگدستی فراخی میں بدل جاتی ہے۔ مصائب کا ازالہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کے ظلم و جور اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ چار رکعت نماز پڑھے اور ہر ایک رکعت میں ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور گیارہ مرتبہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھے اور نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھے اور اپنے سر کے نیچے لکھ کر رکھے تو وہ چیز مل جائے گی۔ اور جو شخص اس دعا کو دس مرتبہ پڑھے جہنم کی آگ پر حرام ہو جائے گی۔ پھر جبرائیلؑ نے عرض کی کہ یا حضرت! اس دعا میں اسم اعظم ہے۔ سوائے متقی و پرہیزگار شخص کے کسی کو تعلیم نہ کیجیے۔ کفعمی نے بلد الامین اور مصباح میں اس دعا کو درج کیا ہے۔

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

خدا کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

سُبْحَانَكَ يَا اَللّٰهُ تَعَالٰیْتَ يَا رَحْمٰنُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِیْرُ

تو پاک ہے اے اللہ تو بلند تر ہے رحم کرنے والے، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے

والے

سُبْحَانَكَ يَا رَحِیْمُ تَعَالٰیْتَ يَا كَرِیْمُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِیْرُ

تو پاک ہے اے مہربان تو بلند تر ہے اے کریم، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا مَلِیْكَ تَعَالٰیْتَ يَا مَالِیْكَ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِیْرُ

تو پاک ہے اے بادشاہ تو بلند تر ہے اے آقا، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا قُدُّوْسُ تَعَالٰیْتَ يَا سَلَامُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِیْرُ

تو پاک ہے اے پاک ترین تو بلند تر ہے اے سلامتی دینے والے، پناہ دے ہمیں آگ سے

اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا مُؤْمِنُ تَعَالٰیْتَ يَا مُهَبِّنُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِیْرُ

تو پاک ہے اے امن دینے والے تو بلند تر ہے اے نگہبان، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ

دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا عَزِیْزُ تَعَالٰیْتَ يَا جَبَّارُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِیْرُ

توپاک ہے اے صاحب عزت تو بلند تر ہے اے زبردست، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ  
دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا مُتَكَبِّرُ تَعَالَيْتَ يَا مُتَجَبِّرُ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے بڑائی والے تو بلند تر ہے اے بڑائی کے مالک، پناہ دے ہمیں آگ سے اے  
پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا خَالِقُ تَعَالَيْتَ يَا بَارِيُّ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے پیدا کرنے والے تو بلند تر ہے اے بنانے والے، پناہ دے ہمیں آگ سے  
اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا مُصَوِّرُ تَعَالَيْتَ يَا مُقَدِّرُ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے صورت گر تو بلند تر ہے اے اندازہ ٹھہرانے والے، پناہ دے ہمیں آگ سے  
اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا هَادِيُّ تَعَالَيْتَ يَا بَاقِيُّ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے ہدایت دینے والے تو بلند تر ہے اے باقی رہنے والے، پناہ دے ہمیں آگ  
سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا وَهَّابُ تَعَالَيْتَ يَا تَوَّابُ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے بہت دینے والے تو بلند تر ہے اے توبہ قبول کرنے والے، پناہ دے ہمیں  
آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا فَتَّاحُ تَعَالَيْتَ يَا مُرْتَا حَ اجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے کھولنے والے تو بلند تر ہے اے صاحبِ راحت، پناہ دے ہمیں آگ سے  
اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا سَيِّدِي تَعَالَيْتَ يَا مَوْلَايَ اجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے میرے سردار تو بلند تر ہے اے میرے مولا، پناہ دے ہمیں آگ سے اے  
پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا قَرِيبُ تَعَالَيْتَ يَا رَقِيبُ اجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے نزدیک تر تو بلند تر ہے اے نگہداد، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے  
والے

سُبْحَانَكَ يَا مُبْدِي تَعَالَيْتَ يَا مُعِيدُ اجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے ابتداء کرنے والے تو بلند تر ہے اے لوٹانے والے، پناہ دے ہمیں آگ سے  
اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا حَمِيدُ تَعَالَيْتَ يَا مُجِيدُ اجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے حمد کے لائق تو بلند تر ہے اے شان والے، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ  
دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا قَدِيمُ تَعَالَيْتَ يَا عَظِيمُ اجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے سب سے پہلے تو بلند تر ہے اے بزرگ تر، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ

دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا غَفُورُ تَعَالَيْتَ يَا شَكُورُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے بہت بخشنے والے تو بلند تر ہے اے لائق شکر، پناہ دے ہمیں آگ سے اے

پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا شَاهِدُ تَعَالَيْتَ يَا شَهِيدُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے گواہی دینے والے تو بلند تر ہے اے حاضر و موجود، پناہ دے ہمیں آگ سے

اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا حَنَّانُ تَعَالَيْتَ يَا مَنَّانُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے محبت والے تو بلند تر ہے اے احسان کرنے والے، پناہ دے ہمیں آگ سے

اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا بَاعِثُ تَعَالَيْتَ يَا وَارِثُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے سہارا دینے والے تو بلند تر ہے اے سچے وارث، پناہ دے ہمیں آگ سے

اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا مُحْيِي تَعَالَيْتَ يَا مُمِيتُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے زندہ کرنے والے تو بلند تر ہے اے موت دینے والے، پناہ دے ہمیں آگ سے

سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا شَفِيعُ تَعَالَيْتَ يَا رَفِيعُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے مہربانی کرنے والے تو بلند تر ہے اے ساتھ دینے والے، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا أَنْبِيَّسُ تَعَالَيْتَ يَا مُؤَنِّسُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے رفیق تو بلند تر ہے اے ہمد مویا اور، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا جَلِيلُ تَعَالَيْتَ يَا جَمِيلُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے جلالت والے تو بلند تر ہے اے صاحبِ حسن، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا خَبِيرُ تَعَالَيْتَ يَا بَصِيرُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے خبر رکھنے والے تو بلند تر ہے اے دیکھنے والے، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا خَفِيُّ تَعَالَيْتَ يَا مَلِيُّ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے صاحبِ عقل تو بلند تر ہے اے مراد بر لانے والے، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا مَعْبُودُ تَعَالَيْتَ يَا مَوْجُودُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے معبود تو بلند تر ہے اے موجود حقیقی، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا غَفَّارُ تَعَالَيْتَ يَا قَهَّارُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے بخشنے والے تو بلند تر ہے اے زبردست، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ

دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا مَذْكَورُ تَعَالَيْتَ يَا مَشْكُورُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے ذکر شدہ تو بلند تر ہے اے شکر کیے گئے، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ

دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا جَوَادُ تَعَالَيْتَ يَا مَعَاذُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے بہت دینے والے تو بلند تر ہے اے جائے پناہ، پناہ دے ہمیں آگ سے اے

پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا جَمَّالُ تَعَالَيْتَ يَا جَلَّالُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے حسن والے تو بلند تر ہے اے بزرگی والے، پناہ دے ہمیں آگ سے اے

پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا سَابِقُ تَعَالَيْتَ يَا رَازِقُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے سب سے اول تو بلند تر ہے اے رزق دینے والے، پناہ دے ہمیں آگ سے

اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا صَادِقُ تَعَالَيْتَ يَا فَالِقُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے صاحبِ صدق تو بلند تر ہے اے شگافتہ کرنے والے، پناہ دے ہمیں آگ سے



اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا سَمِيعُ تَعَالَيْتَ يَا سَرِيعُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے سننے والے تو بلند تر ہے اے تیز تر، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے

والے

سُبْحَانَكَ يَا رَفِيعُ تَعَالَيْتَ يَا بَدِيعُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے بلندی والے تو بلند تر ہے اے جدت والے، پناہ دے ہمیں آگ سے اے

پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا فَعَّالُ تَعَالَيْتَ يَا مُتَعَالٍ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے بڑے فاعل تو بلند تر ہے اے عالی تر، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے

والے

سُبْحَانَكَ يَا قَاضِيُ تَعَالَيْتَ يَا رَاضِيُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے فیصلہ کرنے والے تو بلند تر ہے اے خوش ہونے والے، پناہ دے ہمیں آگ

سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا قَاهِرُ تَعَالَيْتَ يَا طَاهِرُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے زبردست تو بلند تر ہے اے پاکیزگی والے، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ

دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا عَالِمُ تَعَالَيْتَ يَا حَاكِمُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے صاحبِ علم تو بلند تر ہے اے صاحبِ حکم، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ  
دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا دَائِمُ تَعَالَيْتَ يَا قَائِمُ اجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے ہمیشہ رہنے والے تو بلند تر ہے اے موجود، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ  
دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا عَاصِمُ تَعَالَيْتَ يَا قَاسِمُ اجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے حفاظت کرنے والے تو بلند تر ہے اے تقسیم کرنے والے، پناہ دے ہمیں  
آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا غَنِيُّ تَعَالَيْتَ يَا مُغْنِيُّ اجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے تو نگر تو بلند تر ہے اے تو نگر کرنے والے، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ  
دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا وَفِيُّ تَعَالَيْتَ يَا قَوِيُّ اجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے وفا والے تو بلند تر ہے اے قوت والے، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ  
دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا كَافِيُّ تَعَالَيْتَ يَا شَافِيُّ اجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے کفایت کرنے والے تو بلند تر ہے اے شفا دینے والے، پناہ دے ہمیں آگ  
سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا مُقَدِّمُ تَعَالَيْتَ يَا مُؤَخِّرُ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے سب سے پہلے تو بلند تر ہے اے سب سے آخر رہنے والے، پناہ دے ہمیں  
آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا أَوَّلُ تَعَالَيْتَ يَا آخِرُ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے سب سے اول موجود تو بلند تر ہے اے سب سے آخر موجود، پناہ دے ہمیں  
آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا ظَاهِرُ تَعَالَيْتَ يَا بَاطِنُ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے آشکار تو بلند تر ہے اے پوشیدہ، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا رَجَاءُ تَعَالَيْتَ يَا مُرْتَجَى أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے اُمید گاہ تو بلند تر ہے اے اُمید کیے ہوئے، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ  
دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا ذَا الْمَنِّ تَعَالَيْتَ يَا ذَا الطَّوْلِ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے صاحب احسان تو بلند تر ہے اے صاحب بخشش، پناہ دے ہمیں آگ سے  
اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا حَيُّ تَعَالَيْتَ يَا قَيُّوْمُ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے زندہ تو بلند تر ہے اے نگہبان، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا وَاحِدٌ تَعَالَيْتَ يَا أَحَدُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے یگانہ تو بلند تر ہے اے یکتا، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا سَيِّدُ تَعَالَيْتَ يَا صَمَدُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے آقا تو بلند تر ہے اے بے نیاز، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا قَدِيرُ تَعَالَيْتَ يَا كَبِيرُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے صاحب قدرت تو بلند تر ہے اے صاحب کبر، پناہ دے ہمیں آگ سے اے

پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا وَائِلِي تَعَالَيْتَ يَا مُتَعَالِي أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے حاکم تو بلند تر ہے اے ذات عالی، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے

والے

سُبْحَانَكَ يَا عَلِيٌّ تَعَالَيْتَ يَا أَعْلَى أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے بلند تو بلند تر ہے اے سب سے بلند، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے

والے

سُبْحَانَكَ يَا وَوَلِيٌّ تَعَالَيْتَ يَا مَوْلَى أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے سرپرست تو بلند تر ہے اے مالک، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے

والے

سُبْحَانَكَ يَا ذَارِيُّ تَعَالَيْتَ يَا بَارِيُّ أَجْرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے ہو اچلانے والے تو بلند تر ہے اے پیدا کرنے والے، پناہ دے ہمیں آگ

سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا خَافِضُ تَعَالَيْتَ يَا رَافِعُ أَجْرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے پست کرنے والے تو بلند تر ہے اے بلند کرنے والے، پناہ دے ہمیں آگ

سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا مُقْسِطُ تَعَالَيْتَ يَا جَامِعُ أَجْرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے پر آگندہ کرنے والے تو بلند تر ہے اے اکٹھا کرنے والے، پناہ دے ہمیں

آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا مُعِزُّ تَعَالَيْتَ يَا مُذِلُّ أَجْرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے عزت دینے والے تو بلند تر ہے اے ذلت دینے والے، پناہ دے ہمیں آگ

سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا حَافِظُ تَعَالَيْتَ يَا حَفِيفُ أَجْرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے حفاظت کرنے والے تو بلند تر ہے اے نگہبان، پناہ دے ہمیں آگ سے اے

پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا قَادِرُ تَعَالَيْتَ يَا مُقْتَدِرُ أَجْرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے قدرت والے تو بلند تر ہے اے اقتدار والے، پناہ دے ہمیں آگ سے اے

پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا عَلِيمُ تَعَالَيْتَ يَا حَلِيمُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے علم والے تو بلند تر ہے اے حلم والے، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ

دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا حَكِيمُ تَعَالَيْتَ يَا حَكِيمُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے فیصلہ کرنے والے تو بلند تر ہے اے حکمت والے، پناہ دے ہمیں آگ سے

اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا مُعْطِي تَعَالَيْتَ يَا مَانِعُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے عطا کرنے والے تو بلند تر ہے اے روک لینے والے، پناہ دے ہمیں آگ سے

اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا ضَارُّ تَعَالَيْتَ يَا نَافِعُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے نقصان دینے والے تو بلند تر ہے اے نفع دینے والے، پناہ دے ہمیں آگ

سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا مُجِيبُ تَعَالَيْتَ يَا حَسِيبُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے دعا قبول کرنے والے تو بلند تر ہے اے حساب کرنے والے، پناہ دے ہمیں

آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا عَادِلُ تَعَالَيْتَ يَا فَاصِلُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے عدل کرنے والے تو بلند تر ہے اے جدا کرنے والے، پناہ دے ہمیں آگ

سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا لَطِيفُ تَعَالَيْتَ يَا شَرِيفُ اجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے لطف کرنے والے تو بلند تر ہے اے بڑائی والے، پناہ دے ہمیں آگ سے

اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا رَبُّ تَعَالَيْتَ يَا حَقُّ اجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے پالنے والے تو بلند تر ہے اے برحق، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے

والے

سُبْحَانَكَ يَا مَا جِدُّ تَعَالَيْتَ يَا وَاجِدُ اجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے بزرگی والے تو بلند تر ہے اے واجد، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے

والے

سُبْحَانَكَ يَا عَفُوُّ تَعَالَيْتَ يَا مُنْتَقِمُ اجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے معاف کرنے والے تو بلند تر ہے اے بدلہ لینے والے، پناہ دے ہمیں آگ

سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا وَاسِعُ تَعَالَيْتَ يَا مُوسِعُ اجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے کشادگی والے تو بلند تر ہے اے کشادگی دینے والے، پناہ دے ہمیں آگ

سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا رِءُوفُ تَعَالَيْتَ يَا عَطُوفُ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے مہربانی کرنے والے تو بلند تر ہے اے نرمی برتنے والے، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا فَرْدُ تَعَالَيْتَ يَا وَثْرُ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے بے مثل تو بلند تر ہے اے تنہا، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا مُقِيْتُ تَعَالَيْتَ يَا مُحِيْطُ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے نگاہ رکھنے والے تو بلند تر ہے اے احاطہ کرنے والے، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا وَكِيلُ تَعَالَيْتَ يَا عَدْلُ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے کارساز تو بلند تر ہے اے انصاف کرنے والے، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا مُبِينُ تَعَالَيْتَ يَا مَتِينُ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے روشن تر تو بلند تر ہے اے محکم، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا بَرُّ تَعَالَيْتَ يَا وَدُودُ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے نیکو کار تو بلند تر ہے اے محبت والے، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے



سُبْحَانَكَ يَا رَشِيدُ تَعَالَيْتَ يَا مُرْشِدُ أَجْرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے ہدایت والے تو بلند تر ہے اے ہدایت دینے والے، پناہ دے ہمیں آگ سے  
اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا نُورُ تَعَالَيْتَ يَا مُنَوِّرُ أَجْرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے نور تو بلند تر ہے اے نور دینے والے، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے  
والے

سُبْحَانَكَ يَا نَصِيرُ تَعَالَيْتَ يَا نَاصِرُ أَجْرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے مدد کرنے والے تو بلند تر ہے اے مددگار، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ  
دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا صَبُورُ تَعَالَيْتَ يَا صَابِرُ أَجْرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے برداشت کرنیوالے تو بلند تر ہے اے صبر کرنیوالے، پناہ دے ہمیں آگ  
سے اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا مُحْصِي تَعَالَيْتَ يَا مُنْشِيءُ أَجْرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے جمع کرنیوالے تو بلند تر ہے اے پیدا کرنیوالے، پناہ دے ہمیں آگ سے  
اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا سُبْحَانَ تَعَالَيْتَ يَا دَيَّانُ أَجْرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

تو پاک ہے اے پاک و پاکیزہ تو بلند تر ہے اے جزاء دینے والے، پناہ دے ہمیں آگ سے

اے پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا مُغِيثُ تَعَالَيْتَ يَا غِيَاثُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے فریاد رس تو بلند تر ہے اے فریاد کو پہنچنے والے، پناہ دے ہمیں آگ سے اے

پناہ دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا فَاطِرُ تَعَالَيْتَ يَا حَاضِرُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

توپاک ہے اے پیدا کرنیوالے تو بلند تر ہے اے موجود، پناہ دے ہمیں آگ سے اے پناہ

دینے والے

سُبْحَانَكَ يَا ذَا الْعِزِّ وَالْجَمَالِ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَبَرُوتِ وَالْجَلَالِ

توپاک ہے اے بڑائی اور حسن والے تو بابرکت ہے اے صاحب اقتدار اور جلالت والے

سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

توپاک ہے نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، توپاک ہے بیشک میں ہوں خطاکاروں میں سے

فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجِّنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

پس ہم نے قبول کی اس کی دعا اور نجات دی ہم نے اس کو رنج سے، اور ہم مومنوں کو اسی

طرح سے نجات دیتے ہیں

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ أَجْمَعِينَ

اور خدا رحمت کرے ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ان کی آل پاک پر

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو عالمین کا رب ہے اور اللہ کافی ہے ہمارے لئے

کارساز

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ط

اور نہیں کوئی حرکت و قوت مگر وہی جو بلند و برتر خدا سے ملتی ہے۔

صلو علی محمد وآل محمد  
اللہم